

بِسْمِ اللَّهِ، الْحَمْدُ لِلَّهِ وَالصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ، رَبِّ اشْرَحْ لِي صَدْرِي، وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، وَاحْلُلْ عُقْدَةً مِّنْ لِّسَانِي، يَفْقَهُوا قَوْلِي  
السَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ وَبَرَكَاتُهُ

# آؤقرآن سمجھیں

آسان طریقے سے

کورس - 4

**البقرة: آیات: 103-102 کا ٹکڑا**

صفحہ - 15، اشارہ - c

مرتب: ڈاکٹر عبدالعزیز عبدالرحیم  
بانی و ڈائریکٹر انڈر اسٹینڈ القرآن اکیڈمی



سوال: کیا آپ نے سبق پڑھا؟

.A 100 فیصد


.B 50 فیصد سے زیادہ

.C 25 فیصد سے زیادہ

.D آئندہ دیکھیں گے۔ ان شاء اللہ

## سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔






## سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔



## سورة الفاتحة، البقرة : Juz-1

ایک پارے کو چار حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے اور ہر حصے میں پانچ صفحے ہیں۔





ہم دوسرے 5 صفحات کے اشارات کو بائیں  
ہاتھ کی انگلیوں پر پیش کر سکتے ہیں۔

15 14

13 12

11

# اعادہ

آخرت تمہاری؟

دنیا بھی پیاری

بگڑنے سے دشمنی

کتاب کا  
انکار

میشاق خون

براسودا

قتل و اخراج

ایمان لاؤ!

بعض کتاب

موسیٰ و عیسیٰ میشاق طور  
بے ہمدوں سے بے وفائی

جاہل سمجھتے ہیں کہ آگ صرف چند دن  
قاعدہ اور میشاق بھول کر

میشاق خون کے بعد بھی قتل و اخراج

بعض کتاب پر ایمان؟ موسیٰ اور عیسیٰ کے بعد بھی؟

کتاب کا انکار براسودا ہے،

ایمان لاؤ اور میشاقِ طور یاد رکھو!

جاہل

چند دن

قاعدہ

میشاق





شیاطین کی پیروی

جوڑوں میں جدائی

جانتے بوجھتے

راعنات کہو!

وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا  
 كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  
 السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاوَتْ وَمَاوَتْ  
 وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  
 تَكْفُرْ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  
 وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ  
 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلِمُوا  
 لَمَنِ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ  
 مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا  
 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا  
 وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾  
 مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  
 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾

1  
3  
دع  
1  
6  
ع  
1  
3  
أ  
2  
9  
ط  
2  
5  
ع  
4  
9  
ط  
1  
3  
ط  
2  
أ  
2  
هد  
1  
2  
أ  
1  
4  
أ  
1  
2  
نا  
2  
مش  
4  
نا  
2  
ع  
9  
أ  
1  
س  
3  
شا



پندہوں صفحے کے اشارات  
TPI کے ذریعہ

شیاطین کی  
پیردی  
جوڑوں میں  
جدائی  
جاننے بوجھے  
راعنامت کہو!

پندرہویں صفحے کے  
مختصر اشارات



شیاطین

جدائی

جانے نہ بوجھے

راعنا

شیاطین کی پیروی کی، جوڑوں میں جدائی کی، براسودا کیا  
ایمان والو! راعنامت کہو!



الحمد لله



تعارف



# تیسرا اشارہ

1 وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطَانُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ ۖ وَمَا  
 3 دَعَا  
 1 كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطَانَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ  
 6 عَلَّمَ  
 1 السِّحْرَ ۖ وَمَا أَنْزَلَ عَلَى الْمَلَائِكَةِ بِبَابِلَ هَاوَتْ وَمَا زُوَّتْ  
 3 فَا  
 2 وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَ إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  
 9 عَلَّمَ  
 2 تَكْفُرُ ۖ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ  
 5 تَلَّمَ  
 4 وَزَوْجِهِ ۖ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ ۖ  
 9 ظَنَّ  
 1 وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ ۖ وَلَقَدْ عَلَّمُوا  
 3 تَلَّمَ  
 2 لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ ۖ وَلَبِئْسَ  
 2 =  
 2 مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ۖ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ  
 7 هَدَّ  
 1 آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا  
 2 أَسْتَأْذَنُوا  
 1 يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا  
 4 سَمَّ  
 1 وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا ۗ وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾  
 1 قَا  
 2 مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ  
 2 مَشَّ  
 4 أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ ۗ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ  
 2 عَلَّمَ  
 9 بِرَحْمَتِهِ مَن يَشَاءُ ۗ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾  
 1 سَمَّ  
 3 شَا

جاننے بوجھتے

۱۲  
۱۱



# تیسرا اشارہ

## چھلی آیتوں سے تعلق:

سلیمانؑ کے زمانے میں بنی اسرائیل دو فرشتوں کے ذریعہ آزمائے گئے تھے۔ وہ دونوں فرشتے اللہ کی جانب سے ایک امتحان کے طور پر جادو سکھاتے تھے۔ اس کے باوجود بنی اسرائیل نے جادو سیکھا اور اسے میاں بیوی کے درمیان توڑ پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا۔

جاتے بوجھتے

| آیت | 15  | البقرة 2 |
|-----|---|----------|
| 1   | وَاتَّبِعُوا مَا تَتْلُوا الشَّيْطِينُ عَلَىٰ مُلْكِ سُلَيْمَانَ وَمَا        | 1        |
| 3   | كَفَرَ سُلَيْمَانُ وَلَكِنَّ الشَّيْطِينَ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ      | 1        |
| دعا | السِّحْرَ وَمَا أُنزِلَ عَلَى الْمَلَكَيْنِ بِبَابِلَ هَاوَتْ وَمَاوَتْ       | 1        |
| 1   | وَمَا يُعَلِّمَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولَا إِنَّمَا نَحْنُ فِتْنَةٌ فَلَا  | 2        |
| 2   | تَكْفُرُ فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُمَا مَا يُفَرِّقُونَ بِهِ بَيْنَ الْمَرْءِ    | 2        |
| 5   | وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بِضَارِّينَ بِهِ مِنْ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ    | 5        |
| 4   | وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضُرُّهُمْ وَلَا يَنْفَعُهُمْ وَلَقَدْ عَلِمُوا         | 4        |
| 9   | لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلْقٍ وَلَبِئْسَ              | 9        |
| 1   | مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ | 1        |
| 3   | آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّو كَانُوا      | 3        |
| ظنا | يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَقُولُوا رَاعِنَا       | 2        |
| 2   | وَقُولُوا انظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَلِلْكَافِرِينَ عَذَابٌ أَلِيمٌ ﴿١٠٤﴾        | 2        |
| اخا | مَا يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَلَا الْمُشْرِكِينَ    | 2        |
| 1   | أَنْ يُنَزَّلَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَيْرٍ مِّنْ رَبِّكُمْ وَاللَّهُ يَخْتَصُّ     | 1        |
| 1   | بِرَحْمَتِهِ مَنْ يَشَاءُ وَاللَّهُ ذُو الْفَضْلِ الْعَظِيمِ ﴿١٠٥﴾            | 1        |

١٢  
١٣

وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>ق</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ع</sup> مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے بوجھتے

اسباق

- انہوں نے دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو بیچ دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ بُرا سودا کر لیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
- اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقویٰ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)





وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>ق</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ع</sup> مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾<sup>ع</sup>

جانتے بوجھتے

قرآن کتنا آسان ہے! آپ کو ہر لائن میں تقریباً 1 نیا لفظ سیکھنا ہے۔  
آسانی سے یاد رکھنے کے لیے ہم فقروں کو استعمال کریں گے۔

قرآن کو سمجھنے میں دو چیلنجز اور ان کا حل:

- الفاظ کے معانی: اشارات اور فقروں کی مدد سے سیکھیے۔
- گرامر: ٹی پی آئی اور عربی بول چال کی مدد سے سیکھیے۔



# لفظی و فقہی ترجمہ اور شرح

- فقروں کو ہلکا سا کلر کیا گیا ہے۔
- نیا فقرہ آتے ہی اسی وقت ہم اس کی دو مرتبہ پریکٹس کریں گے۔





وَلَقَدْ عَلِمُوا

جاننے بوجھتے

اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>ط</sup> وَلَبِئْسَ

البتہ جس نے خرید اس (جادو) کو نہیں ہے اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ بُرا ہے

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔



وَلَقَدْ عَلِمُوا

جاننے بوجھتے

اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ وَلَبِئْسَ

البتہ جس نے خرید اس (جادو) کو نہیں ہے اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ بُرا ہے

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

R-5s-10-Loud





وَلَقَدْ عَلِمُوا

جانتے بوجھتے

اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>ط</sup> وَلَبِئْسَ

البتہ جس نے خرید اس (جادو) کو نہیں ہے اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ بُرا ہے

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔

- وہ جان چکے تھے کہ وہ آخرت سے ہاتھ دھو بیٹھے ہیں۔ اپنے اس سودے میں وہ کس کو بیچ رہے تھے؟ خود اپنے آپ کو! مگر انہیں اس بات کا اندازہ نہیں تھا کہ وہ کتنا برا سودا کر رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں ان کو کیسا دردناک عذاب ہوگا، کاش وہ جانتے ہوتے۔ (زاد المسیر لابن الجوزی)



وَلَقَدْ عَلِمُوا

جاننے بوجھتے

اور البتہ تحقیق انہوں نے جان لیا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأُخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ<sup>ط</sup> وَلَبِئْسَ

البتہ جس نے خرید اس (جادو) کو نہیں ہے اُس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ، اور البتہ بُرا ہے

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

وہ جو بیچ دیا انہوں نے اس کے بدلے اپنے آپ کو، کاش کہ وہ جانتے ہوتے۔





سوال :- ترجمہ کیجیے : مِنْ خَلَاقِ

A کوئی ثواب

B کوئی حصہ

C کوئی سزا

D کوئی کام

# سوال :- ترجمہ کیجیے : مِنْ خَلَاقِ

A کوئی ثواب

B کوئی حصہ

C کوئی سزا

D کوئی کام



سوال :- ترجمہ کیجیے : وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا

A برا ہے وہ جو وہ سب بیچتے ہیں

B برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے

C البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے

D اور البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے

# سوال :- ترجمہ کیجیے : وَلَبِئْسَ مَا شَرَوْا

A برا ہے وہ جو وہ سب بیچتے ہیں

B برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے

C البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے

D اور البتہ برا ہے وہ جو بیچ دیا انہوں نے



سوال :- بنی اسرائیل سو دے میں کس کو بیچ رہے تھے؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اپنے آپ کو

B ثواب (جمع) کو

C ایمان کو

D تقویٰ

سوال :- بنی اسرائیل سودے میں کس کو بیچ رہے تھے؟ ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اپنے آپ کو

B ثواب (جمع) کو

C ایمان کو

D تقویٰ

الحمد لله





وَلَوْ أَنَّهُمْ

اور اگر وہ

جانتے بوجھتے

أَمَنُوا وَاتَّقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے (تو) البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ ہوتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے۔



وَلَوْ أَنَّهُمْ

اور اگر وہ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے (تو) البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ ہوتے

يَعْلَمُونَ ١٠٣ ع

جانتے۔

جانتے بوجھتے

R-5s-10-Loud



وَلَوْ أَنَّهُمْ

اور اگر وہ

جانتے بوجھتے

أَمَنُوا وَاتَّقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے (تو) البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ ہوتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے۔

- اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقویٰ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)





وَلَوْ أَنَّهُمْ

اور اگر وہ

جانتے بوجھتے

أَمَنُوا وَاتَّقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے (تو) البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ ہوتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے۔

- زمین و آسمان کے پیدا کرنے والے رب کی جانب سے کیا ہی بڑی یاد دہانی ہے! کتنا رحم کرنے والا ہے اللہ! ہم سے اس کی محبت کتنی زیادہ ہے! وہ ہم سے یہ چاہ رہا ہے کہ ہم حق کو سمجھیں جو اس نے اپنے نبی کے ذریعہ ہم تک بھیجا ہے۔



## حدیث

• حضرت زید بن ارقم رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ ﷺ یہ دعا کیا کرتے تھے:

اللَّهُمَّ اتِ نَفْسِي تَقْوَاهَا، وَزَكِّهَا أَنْتَ خَيْرٌ مِنْ زَكَّاهَا، أَنْتَ وَلِيُّهَا وَمَوْلَاهَا.

اے اللہ! میرے نفس کو اس کا تقویٰ عطا فرما، اور اسے پاک فرما، تو ہی اس کا بہتر پاک کرنے والا

ہے (اور) تو ہی اس کا آقا اور مولیٰ ہے۔ (مسلم: ۲۷۲۲)



وَلَوْ أَنَّهُمْ

اور اگر وہ

جانتے بوجھتے

أَمِنُوا وَاتَّقُوا لِمَثُوبَةٍ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

ایمان لاتے اور پرہیزگار بن جاتے (تو) البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس بہتر، کاش وہ ہوتے

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے۔





# سوال :- ترجمہ کیجیے : وَاتَّقُوا

A اور ہم ڈرے (اللہ سے)

B اور وہ سب ڈرتے ہیں (اللہ سے)

C اور وہ سب ڈرے (اللہ سے)

D وہ سب ڈرے (اللہ سے)

# سوال :- ترجمہ کیجیے : وَاتَّقُوا

A اور ہم ڈرے (اللہ سے)

B اور وہ سب ڈرتے ہیں (اللہ سے)

C اور وہ سب ڈرے (اللہ سے)

D وہ سب ڈرے (اللہ سے)

سوال :- ترجمہ کیجیے : لَمْ تُؤْبَهُ مِنْ عِنْدِ اللَّهِ

A بڑا ٹھکانہ اللہ کے پاس

B ٹھکانہ اللہ کے پاس

C البتہ ٹھکانہ

D البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس



سوال :- ترجمہ کیجیے : لَمْ تُؤْبَهُ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ

A بڑا ٹھکانہ اللہ کے پاس

B ٹھکانہ اللہ کے پاس

C البتہ ٹھکانہ

D البتہ ٹھکانہ پاتے اللہ کے پاس

سوال :- اگر بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو۔۔۔۔۔ اسے پڑھا ہوتا، تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقویٰ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے۔

A اس کو چھوڑ دینے کے بجائے

B اس کو رد کرنے کے بجائے

C اس کے ساتھ کفر کرنے کے بجائے

D اس کو تلاوت کرنے کے بجائے

سوال :- اگر بنی اسرائیل نے اللہ کی کتاب کو۔۔۔۔۔ اسے پڑھا ہوتا، تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقویٰ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ ایک سے زائد جوابات دیجیے۔

A اس کو چھوڑ دینے کے بجائے

B اس کو رد کرنے کے بجائے

C اس کے ساتھ کفر کرنے کے بجائے

D اس کو تلاوت کرنے کے بجائے



سوال :- اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے مضبوط یاد دہانی کیا تھی؟  
ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اگر وہ سب ایمان لاتے

B اگر وہ سب ایمان نہ لاتے

C اگر وہ سب ڈرتے

D ان کو بڑا اجر دیا جائے گا

سوال :- اللہ کی طرف سے بنی اسرائیل کے لیے مضبوط یاد دہانی کیا تھی؟  
ایک سے زائد جوابات دیجیے:

A اگر وہ سب ایمان لاتے

B اگر وہ سب ایمان نہ لاتے

C اگر وہ سب ڈرتے

D ان کو بڑا اجر دیا جائے گا

الحمد لله





وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخْرَةِ مِنْ خَلَاقٍ<sup>ط</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾

جانتے بوجھتے

ترجمہ

102- اور البتہ وہ جان چکے ہیں جس نے یہ خریدا، اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں، اور البتہ بُرا ہے جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ دیا، کاش وہ جانتے ہوتے۔

جانتے بوجھتے

وَلَوْ أَنَّهُمْ

أَمِنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ۝<sup>ع</sup> ۱۰۳

ترجمہ

103- اور اگر وہ ایمان لے آتے اور پرہیزگار بن جاتے تو اللہ کے پاس اچھا بدلہ پاتے، کاش

وہ جانتے ہوتے۔



اسباق، دعا اور پلان





وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْآخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>ق</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ع</sup> مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

جانتے بوجھتے

اسباق

- انہوں نے دردناک عذاب کے بدلے اپنے انعام کو بیچ دیا۔ انہوں نے جان بوجھ کر یہ بُرا سودا کر لیا۔ انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس کا انجام کتنا برا ہوگا۔ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)
- اگر انہوں نے اللہ کی کتاب کو چھوڑ دینے کے بجائے اسے پڑھا ہوتا تو وہ اچھی طرح جان لیتے کہ ایمان اور تقویٰ اللہ کی طرف سے بڑے انعامات کا سبب بنتے ہیں۔ (لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ)



اے اللہ!

ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے ایمان کو  
مضبوط کرے اور ہم متقی بن جائیں۔





اے اللہ!

ہمیں ایسا علم عطا فرما جو ہمارے ایمان کو  
مضبوط کرے اور ہم متقی بن جائیں۔

مطالعہ و غور و فکر



پلان (مثال کے طور پر):

ان شاء اللہ! میں کچھ وقت نکال کر  
قرآن کی آیات میں غور و فکر کروں گا  
تاکہ روزانہ میرے علم اور ایمان میں  
اضافہ ہوتا رہے۔





أفعال أسماء

ان آیات میں



# أَسْمَاءُ

کچھ ان میں سے

وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ قَفَّ وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ ط لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

اسم

أَمِنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ لَّوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ع ﴿١٠٣﴾

نَفْسٌ ← أَنْفُسٌ +

عَلَّمَ



وَلَقَدْ عَلِمُوا

TPI?

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>قف</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ ﴿١٠٢﴾ وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ع</sup> مِّنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَّوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ ﴿١٠٣﴾

س ع ل م ع ل م ع ل م يَعْلَمُ إِعْلَمُ عَالِمٌ مَعْلُومٌ عِلْمٌ

اسم فاعل  
اسم مفعول  
فعل

+ أفعال

تین حروف والے صحت مند افعال

فَتَحَ، نَصَرَ، ضَرَبَ، سَمِعَ

عِلْمٌ





وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>قف</sup> وَلَبِئْسَ

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ<sup>ع</sup> ۱۰۲ وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ع</sup> مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا

يَعْلَمُونَ<sup>ع</sup> ۱۰۳

اسم فاعل  
اسم مفعول  
فعل

أفعال +

3 حروف والے

کمزور افعال: وَهَبَ، وَعَدَ، قَالَ، ---

ہمزہ والے افعال: أَمَرَ، شَاءَ، ---

یکساں حروف والے افعال: ظَنَّ، ضَلَّ، ---

هد ش ر ي شَرَى يَشْرِي إِشْرٍ شَارٍ مَشْرِيٍّ شِرَاءٍ

قا ك و ن كَانُ يَكُونُ كُنُّ كَابِنٍ - كُونُ

عَلَّمَ



وَلَقَدْ عَلِمُوا

لَمَنْ اشْتَرَاهُ مَا لَهُ فِي الْأَخِرَةِ مِنْ خَلَقٍ<sup>قف</sup> وَلَبِئْسَ

TPI?

مَا شَرَوْا بِهِ أَنْفُسَهُمْ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ (١٠٢) وَلَوْ أَنَّهُمْ

آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَمَثُوبَةٌ<sup>ط</sup> مِنْ عِنْدِ اللَّهِ خَيْرٌ<sup>ط</sup> لَوْ كَانُوا

TPI?

TPI?

يَعْلَمُونَ (١٠٣)

اسم فاعل  
اسم مفعول  
فعل

أفعال +

مزید فیہ افعال

عَلَّمَ، حَاسَبَ، أَسْلَمَ، اِخْتَلَفَ، اِسْتَغْفَرَ  
تَدَبَّرَ، تَدَارَسَ، اِنْقَلَبَ

إِخْرَ + ش ر ي اِشْتَرَى يَشْتَرِي اِشْتَرِ مُشْتَرٍ مُشْتَرَى اِشْتِرَاءَ

أَسَدَ + أ م ن اِمَّنَ يُؤْمِنُ اِمِنُ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنٍ مُؤْمِنٍ اِيْمَانٍ

إِخْرَ + و ق ي اِتَّقَى يَتَّقِي اِتَّقِ مُتَّقٍ مُتَّقِي اِتِّقَاءَ



سوال :- اِتَّقَى کا اسم مفعول بتائیے

A مُتَّقَى

B مُتَّقٍ

C اِتَّقَاء

D وَاقٍ

# سوال :- اِتَّقِيَ کا اسم مفعول بتائیے

A مُتَّقِيَ

B مُتَّقِيَ

C اِتَّقَاءَ

D وَاقِيَ



# سوال :- شَرِي کا فعل امر بتائیے

A مَشْرِيّ

B اِشْتَرِ

C اِشْرُ

D شِرَاء

# سوال :- شَرِي کا فعل امر بتائیے

A مَشْرِيٌّ

B اِشْتَرِ

C اِشْرُ

D شِرَاءٌ

# سوال :- نَفْس کی جمع بتائیے

A نَفْسِیْن

B أَنْفُس

C نَفَس

D نَفْسُون



# سوال :- نَفْس کی جمع بتائیے

A نَفْسِیْن

B أَنْفُس

C نَفَس

D نَفْسُوْن

الحمد لله





# سات ہوم ورک

دوتلاوت کے (۵ منٹ مصحف سے، ۵ منٹ حافظے سے)

دوپڑھنے کے (کتاب سے، پاکٹ بک یا شیٹ سے)

اس کورس کا لفظی ترجمہ اور قواعد کا mp3 سننا

اپنے ساتھی سے کورس کی باتیں کرنا

اور نماز میں مختلف سورتوں کی تلاوت کرنا

آپ منتخب ہیں

1- اپنے لیے دعا کریں:

رَبِّ زِدْنِي عِلْمًا

2- اپنے ساتھیوں کے لیے دعا کریں کہ

اے اللہ! قرآن کی کلاس میں قرآن  
سیکھنے میں ہماری مدد فرما!







# ویڈیوز سے پڑھائیے!

◀ اگر آپ ویڈیو کو دیکھنے کی پابندی نہ کر سکیں تو موثر طریقہ یہ ہے کہ

اپنے 2، 5، 10 دوستوں کو جمع کیجیے اور مل کر ویڈیو سے سیکھیے۔

◀ جہاں میں **عِلْم** کہوں، ویڈیو کو روکیے اور آپس میں پریکٹس کیجیے۔







# ورنہ آن لائن ٹیچرز سے پڑھیے

◀ ہماری ویب سائٹ پر ٹیچرز موجود ہیں۔

◀ اپنی ساری فیملی کے ساتھ سیکھیے یا بچوں کو پڑھائیے۔

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)





بہتر یہ ہے کہ خود ٹیچر بنیے!

سکھنے کا بہتر طریقہ سکھانا ہے! ◀

PPT فائلس ڈاؤن لوڈ کیجیے اور پڑھائیے! ◀

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)





# ٹیچر ٹریننگ لیجیے!

ہماری ویب سائٹ پر ٹرینرز موجود ہیں، اور

ٹیچر ٹریننگ کا مواد بھی

[www.understandquran.com](http://www.understandquran.com)





سُبْحَانَكَ اللَّهُمَّ وَبِحَمْدِكَ  
نَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا أَنْتَ  
نَسْتَغْفِرُكَ وَنَتُوبُ إِلَيْكَ.

اے اللہ ہمیں  
• قرآن پڑھنے،  
• سمجھنے،  
• غور کرنے،  
• عمل کرنے،  
• پھیلانے،  
• یاد کرنے کی  
توفیق دے۔